

## 2021 نیو ایئرز لیوی کے موقع پر میئر پیٹرک براؤن اور کونسل کے اراکین کے ساتھ آن لائن طور پر شامل ہو جائیں

برامپٹن، آن (9 فروری 2021) – بروز ہفتہ، مورخہ 13 فروری کو دن 11 تا 12 بجے تک منعقد کی جانے والی میئر کی قدیمی نیو ایئرز لیوی کی تقریب میں میئر پیٹرک براؤن اور کونسل ممبران کے ساتھ ورجونل طریقے سے شامل ہو جائیں۔

اس سال، کووڈ-19 اور صوبہ بھر کے شٹ ڈاؤن کی وجہ سے میئر لیوی کو آن لائن طریقے سے ہی منعقد کیا جائے گا۔ میئر کی جانب سے نئے سال کے خطاب کے بعد، میئر براؤن اور کونسل ممبران کی جانب سے خیرمقدمی پیغامات جاری کیے جائیں گے۔

اس تقریب کے ایک حصے کے طور پر، برامپٹن ٹریویا گیم کی مدد سے لوگ برامپٹن کے بارے میں اپنے علم کی جانچ کر سکتے ہیں۔ یہ گیم سیل فون پر کھیلی جا سکتی ہے، جس کے لیے کاہوٹ ایپ کی ضرورت ہو گی (جو ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے) یا آن لائن طور پر [www.kahoot.it](http://www.kahoot.it) پر دستیاب ہے۔ مقابلے میں شریک چوٹی کے پانچ کھلاڑی ایک ای گفٹ کارڈ بھی جیت سکیں گے جو ڈاؤن ٹاؤن کے شرکت کنندگان کاروباروں کی کرب سائیڈ پک اپ سے آن لائن خریداری کے لیے ہو گا۔

اس سال کی لیوی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک ورجونل فوٹو بُتہ بھی موجود ہو گا جہاں سے لوگ اپنی اور اپنی فیملی کی تصاویر کو آن لائن طور پر #BramptonLevee کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے شیئر بھی کر سکیں گے۔

اس تقریب کی میزبانی ٹورانٹو کے سٹی ٹی وی کے لیے کام کرنے والی برامپٹن کی اپنی انعام یافتہ جرنلسٹ کرسٹینا بوورن کریں گی۔

اس تقریب کے بارے میں آن لائن تفصیلات [www.brampton.ca/events](http://www.brampton.ca/events) پر ملاحظہ کریں۔

نیو ایئرز لیوی ایک روایت ہے جو کینیڈا میں سرکاری طور پر وفاقی، صوبائی، علاقائی اور میونسپلٹی کی سطح پر منائی جاتی ہے پچھلے کئی برسوں کے دوران، نیو ایئرز لیوی نے کئی مختلف شکلیں اختیار کی ہیں، جن میں رہائشیوں کے لیے خیرمقدمی تقریبات منعقد کی جاتی رہی ہیں جبکہ رہائشیوں کو میئر اور کونسلرز کے ساتھ ملاقات کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے رہے ہیں۔

### اقتباس

"نیو ایئرز لیوی کی روایت ہے کہ اس دوران نئے سال کی مبارک باد اور نیک تمناؤں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ یہ موقع، پچھلے سال کے مختلف واقعات پر روشنی ڈالنے اور برامپٹن میں آنے والے سال کے مواقع کا خیرمقدم کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ نیو ایئرز لیوی اس سال مختلف ہو سکتی ہے مگر یہ ایک نہایت اہم روایت ہے جس کو جاری رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سال کی تقریبات کے دوران میں اپنے رہائشیوں سے ملاقات کرنے کا منتظر رہوں گا!"

– پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

### میڈیا کنٹیکٹ

گروندر سنگھ  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
سٹریٹیجک کمیونیکیشنز  
سٹی آف برامپٹن

905-874-2028 | [Gurvinder.A.Singh@brampton.ca](mailto:Gurvinder.A.Singh@brampton.ca)

